

100 Ayat Posts

Volume 6

100 آیات پوسٹس جلد 6

کام کے ارادے پر ان شاء اللہ کہنا

اور کسی بھی چیز کے بارے
میں یوں مت کہو
کہ میں اسے کل کر دوں گا

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ
إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۝
(الکہف 23)

مگر یہ کہ اللہ چاہے،
اور جب بھول جاؤ تو یاد آنے پر
اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو،
اور یوں کہو کہ اُمید ہے کہ
میرا رب مجھے اس سے بھی
زیادہ رُشد (ہدایت) کے قریب تر
بات کی راہنمائی سے نوازے گا

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَإِذْ كُرِّرْتُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ
وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي
لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝
(الکہف 24)

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

Surely, the mercy of Allah is close to those who are good in their deeds.

(الاعراف: 56)





وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

Towards Allah is the ultimate end of all matters.

(لقمان: 22)



107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اور ہم نے آپؐ کو تمام جہانوں کے لیے
سراپا رحمت بنا کے بھیجا

And We have not sent you but as mercy for all the worlds.

الانبياء 107

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں،

Surely, good deeds erase
bad deeds.

(ہود: 114)





وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط

اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

And I entrust my matter with Allah.

(المؤمن: 44)



لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ﴿٢١﴾

بلاشبہ تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے
ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روزِ آخرت کی توقع رکھتے ہیں
اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں

There is indeed a good model for you in the Messenger of Allah - for the one who has hope in Allah and the Last Day, and remembers Allah profusely.

الاحزاب 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑦

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے
تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جمادے گا۔

O you who believe, if you will help (the religion prescribed by) Allah,
He will help you, and will stabilize your footings.

(محمد: 7)



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

اور عہد کو پورا کرو۔

پیشک (اللہ کے ہاں) عہد کی باز پرس ہوگی۔

And fulfill the covenant.
Surely, the covenant shall be asked about (on
the Day of Reckoning).

بنی اسرائیل: 34

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ③

اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے

And every matter has its appointed time.

القبر 3



نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام
پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔

Keep yourself content with those who call their Lord
morning and evening, seeking His pleasure,

الكهف: 28





إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

بیشک میرا رب میرے ساتھ ہے۔

Indeed with me is my Lord.

(الشعراء: 62)



نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ مبارک بے حد بلند

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط

ایمان والوں کے لیے یہ نبی ﷺ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں
اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں

The Prophet is closer to the believers than their own selves, and his wives are their mothers.

الاحزاب 6

وَلَا تَجَسَّسُوا

اور دوسروں کی جاسوسی نہ کرو۔

And do not be curious (to find out faults of others),

الحجرات: 12



إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط

یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔

Indeed your Lord is extensive in forgiveness.

النجم: 32



وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ⑰

اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا
وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا

And if one turns away from the remembrance of
his Lord, He will thrust him into a severe torment.

الجن 17

أَفْرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو،

عَاَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزِلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾

کیا اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَافًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟

(الواقعة: 68، 69، 70)



وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ط

اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں

The worldly life is nothing
but a game and fun,

الانعام: 32



اللہ کی رحمت اور بخشش
بے حساب

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

اے پیغمبر! میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو!
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا،
اللہ تو سب گناہوں کی بخشش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے

Say (on My behalf), O servants of Mine who have acted recklessly against their own selves, do not despair of Allah's mercy. Surely, Allah will forgive all sins. Surely, He is the One who is the Most-Forgiving, the Very-Merciful.

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں
اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔

And good women are for good men,
and good men are for good women.




النور: 26

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔

Whatever Allah orders is destined to occur.

(النساء: 47)





مہرِ ختمِ نبوت

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ④٠

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،

لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں

اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے

Muhammad is not a father of any of your men, but he is a messenger of Allah and the last of the prophets. And Allah has the Knowledge of every thing.

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط

کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا بھی

Be grateful to Me, and to your parents.

لقمان: 14



وَمَا تَقَدِّمُوا إِلَّا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ط

اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے
اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر۔

And whatever good you will send ahead for your
own-selves, you will find it with Allah much better
in condition, and much greater in reward.



(الزمل: 20)



رَبَّنَا

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④


اے ہمارے پروردگار آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے،

اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں،

اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے

O our Lord, in You alone we trust, and to You alone we turn for help, and to You is the final return.

الممتحنہ 4



أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ط

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔

Is Allah not sufficient for (the protection of)
His slave?

(الزمر: 36)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

بیشک اللہ انصاف کا، احسان کا،
اور رشتہ داروں کو (ان کے حقوق) دینے کا حکم دیتا ہے۔

Allah enjoins to do justice and to adopt good behavior
and to give relatives (their due rights),

النحل: 90





④ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا

And We raised high your name.

آلَمُ نَشْرَحُ 4

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دُنیا کے ہر خطے میں پانچ وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں سے بلند ہوتا ہے۔ نیز آپ کے مبارک نام کو دُنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور انھیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ


مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ط

بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا

اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔

A graceful word and forgiving is better than
charity followed by causing hurt.

البقرة: 263



تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿54﴾

بڑی برکت والا ہے اللہ
جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

Glorious is Allah, the Lord of all the worlds.

الاعراف: 54





لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔

تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے

اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں۔

مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں

Surely, there has come to you, from your midst, a Messenger who feels it very hard on him if you face a hardship, who is very anxious for your welfare, and for the believers he is very kind, very merciful.

التوبہ 128

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ❁

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو
بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

O you who believe, seek help through patience and prayer. Surely, Allah is with those who are patient.

البقرة: 153



أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ②١

اگر وہ (اللہ) اپنا رزق روک لے تو بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا۔
بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے ہیں۔

Or, who is there to give you sustenance, if He withholds
His sustenance? Still, they persist in rebellion and aversion.

الملک: 21



رب کو سب کی خبر ہے

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط

ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے

He knows what every soul earns

الرعد 42



وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا
جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

And your willing is of no avail unless Allah,
Lords of the worlds, wills.

التکویر: 29



وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ^{تف}

اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس
لوٹ کر جاؤ گے،

Be fearful of a day when you shall
be returned to Allah,

البقرة: 281




144 وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ

And be among the grateful.

الاعراف 144



وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ④

اور یقیناً آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔

And you are surely on an excellent
standard of character.

(القلم: 4)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾^{ج ص}

اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب
سے بہتر وارث ہے

My Lord, do not leave me alone and
You are the best of inheritors.

الأنبياء : 89



26 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

اور میرا کام آسان فرما دیجئے

And make my task easy for me.

ظہ 26




رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ط 24

اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما
جیسے کہ انھوں نے مجھے بچپن میں پالا۔

My Lord, be merciful to them as they have brought
me up in my childhood.

بنی اسرائیل: 24





وَالَّذِينَ يُسْكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ط
إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْذِحِينَ ❁

اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں
تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

Those who hold fast to the Book and establish Salah,
We shall never let the reward of (such) righteous
people to go to waste.

الاعراف: 170

جنت میں نیک خاندان ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیئے جائیں گے

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے

الرعد 23

کم درجہ والوں کے درجات بڑھا کر اللہ تعالیٰ اونچے درجہ والوں سے ملا دیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے

الطور 21



وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی
جو عظمت و بزرگی والا ہے۔

And your Lord's Countenance will remain,
full of majesty, full of honour.

الرحمن: 27

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا
جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔

Surely, Allah does not change the condition
of a people unless they change themselves

الرعد: 11

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿53﴾

اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے
مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو۔

یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے

And I do not absolve my inner self of blame. Surely, man's inner self often incites to evil, unless my Lord shows mercy. Certainly, my Lord is the Most-Forgiving, Very-Merciful.

سورۃ یوسف 53



وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ (17)

اور جو مصیبت تجھ پر آجائے اس پر صبر کر۔
یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

and observe patience on what befalls you.
Surely, this is among the matters of determination.

(لقمان: 17)



فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

پس اللہ بہتر نگہبان ہے
اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

Well, Allah is the best guardian,
and He is the Most-Merciful of all the merciful.

یوسف: 64



وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿53﴾

اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں
کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے

Tell My servants that they should speak that which is best.
Surely, Satan creates discord among them.
Indeed, Satan is an open enemy to mankind.

سورة بنی اسرائیل 53



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط

اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتا۔

Allah does not obligate anyone beyond his capacity.

البقرة: 286



هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

وہی تو ہے (اللہ) جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تاکہ وہ اُس سے سکون
حاصل کرے۔

He is the One who has created you from a single soul,
and out of him created his wife, so that he may
find comfort in her.

الاعراف: 189



نیکی اور بدی کی جزا و سزا

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس • آگنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا

Whoever comes with a good deed will receive ten times as much, and whoever comes with an evil deed will be requited with no more than the like of it, and they shall not be wronged.

الانعام 160



إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔

Surely, for those who have awe of their Lord
without seeing (Him) , there is forgiveness
and a big reward.

الملك: 12



وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ

اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انھیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے، اور انھیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرمایا ہے۔

As for those who have adopted right path,
Allah improves them in guidance, and gives
them their piety.

محمد: 17

اپنے باہمی تعلقات درست رکھیں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①

پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم مومن ہو

So, fear Allah, and set your relations right,
and obey Allah and His Messenger, if you are believers.

الانفال 01



وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا،
میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے ہی پاس ہے۔

I do not claim from you any reward for it.
My reward is with none but with the Lord
of the worlds.

الشعراء: 127





إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔

Surely it is your enemy whose traces are cut off.

(الکوثر: 3)

سَبَعْنَا وَأَطَعْنَا ^{ذُو} غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ ۝⁽²⁸⁵⁾

ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں
اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

We have listened, and obeyed. Our Lord, (we seek)
Your pardon! And to You is the return.

البقرة: 285



رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ^{صَلِّ}

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ⑥5

ہمارے پروردگار! جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے

Our Lord, avert from us the punishment of the Hell;
indeed, its punishment is a persisting affliction.

الفرقان 65



وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔

And Allah would not punish them while they seek forgiveness.

الانفال: 33



وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔

اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

And to Him belongs majesty in the heavens and the earth.

And He is the Mighty, the Wise.

الجاثية: 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَ كُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو،
اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو

O you who believe, fear Allah,
and be in the company of the truthful.

التوبہ 119



وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط

اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں،
وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ
اللہ اپنے فضل سے انھیں بے نیاز کر دے۔

And those who cannot afford
marriage should keep themselves
chaste until Allah enriches
them out of His grace.

النور: 33

صلے
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨

ارشاد باری تعالیٰ ہے

ہم آپ کیلئے آسانی پیدا کر دیں گے۔

And We will facilitate for you
(to reach) the easiest way.

الأعلى: ٨

رات آرام کرنے کے لیے ہے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط

وہ اللہ ہی جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو

اور دن کو روشن بنایا۔ (تاکہ تم اس میں کام کر سکو)

(یونس 67)

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۙ ⑩

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ ⑪

اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا

اور ہم ہی نے رات کو پردہ مقرر کیا

اور ہم ہی نے دن کو کمائی کا وقت بنایا

(النبا 9 11۳)

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے
نہ مددگار۔

Other than Allah, you have neither a patron,
nor a helper.

(البقرة: 107)



قیامت کے دن

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝۱۰

اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔

And all that is contained in the
hearts will be exposed.

العاديات: 10

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِدٍ سُبْحٰنَهُ ط
إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّهَا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ؕ

اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے،
اس کی ذات پاک ہے۔
جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے
کہ ہو جا۔ چنانچہ وہ جاتی ہے۔

(مریم: 35)



استغفار سے ہو زندگی خوشگوار

اگر تم استغفار کرو گے تو !!!!

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

(1) وہ تم پر آسمان سے مینہ برسائے گا ۝

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

(2) تمہیں مال (3) اور اولاد سے نوازے گا (4) تمہارے لیے باغ پیدا

کرے گا اور (5) تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا

نوح آیات نمبر 11 - 12



وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ فَرِحَ اللَّهُ

اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

Whatever blessing you have is from Allah.

(النحل: 53)



تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

"اے میرے رب"

مجھے مسلم ہونے کی حالت میں وفات دے
اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔

Make me die a Muslim and make me join
the righteous.

یوسف: 101



وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

اور جیسی بھلائی اللہ نے تم سے کی ہوئی ہے
ویسی بھلائی تم بھی لوگوں سے کرو

And do good (to others)
as Allah has done good to you

القصص 77



وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے

ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا

Our Lord has encompassed
everything with His knowledge.

In Allah we place our trust.

الاعراف 89

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

Why do you not seek forgiveness from Allah,
so that you are treated with mercy?

النمل: 46



مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے،
کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔

Whatever blessing Allah opens for the people,
there is none to hold it back,

فاطر: 2




إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا

Verily Allah wrongeth not
any one a grain's weight,

(النساء 40)



رَبَّنَا وَلَا تُحِثُّ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ

اے رب ہمارے! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا
جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔

Our Lord, do not make us bear a burden
for which we have no strength.

(البقرة: 286)



أَمَّنَّا بِاللَّهِ
وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ہم اللہ پر ایمان لائے
اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔

We believe in Allah!
so be our witness that we are Muslims.

آل عمران: 52

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ①٩

بیشک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔

Only the people of understanding respond
to the advice –

الرعد: 19



وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ^قصَلِّ

اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر
کرنے کا حق ہے۔

They did not hold Allah in His true esteem.

الزمر: 67



وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعًا فِي عُنُقِهِ ط
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ⑬

ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکار رکھا ہے
جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا

(ہم اسے کہیں گے)

إِقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑭

اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے

بنی اسرائیل 13-14

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبَأَلَهُ مِنْ مِّثْلٍ ط

اور جس کو اللہ ہدایت دے
اُس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔

And whomsoever Allah gives guidance,
for him there is no one to misguide.

(الزمر: 37)



إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

Surely, Allah is with those who are patient.

(البقرة: 153)



وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط

إِنَّ اللَّهَ بِصِيرُوبِ الْعِبَادِ ④

اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
بیشک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

And I entrust my matter with Allah.
Surely, Allah has all (His) servants in sight.



وَأِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی
نصیحت کا سامان ہے۔

And indeed there is a sure lesson in
the cattle for you.

الزّٰمّنون: 21



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے

تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں

اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں

تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں

اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں

Certainly, the believers are those whose hearts are filled with awe when (the name of) Allah is mentioned; and when His verses are recited to them, it makes them more developed in faith; and in their Lord they place their trust.

الانفال 2



الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا


إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی
طرف لوٹ کر جانا ہے۔

who, when a suffering visits them, say:
We certainly belong to Allah, and to Him we are
bound to return.

البقرة: 156



وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس
جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں، ان کی پیروی کرو،

And follow the best of what has been sent down
to you from your Lord,

(الزمر: 55)



فحاشی کو عام کرنا شیطان کا ایجنڈا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط

اے ایمان والو! تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی
شخص شیطان کے پیچھے چلے، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی
اور بدی کی تلقین کرے گا۔

O you who believe, do not follow the footsteps of Satan.
Whoever follows the footsteps of Satan, (should know that)
he orders (one to commit) shameful acts and evil deeds.

النور: 21



وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ط

اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔

And should a stroke from ShaiTan (Satan) strike you,
seek refuge with Allah.

فصلت: 36

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

Our Lord, give us good in this world and good in the Hereafter,
and save us from the punishment of Fire.

البقرة: 201



وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ

وَلَنْ تَبْدُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو
اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔

Do not walk on the earth in haughty style.
You can neither tear the earth apart, nor can
you match the mountains in height.

بنی اسرائیل: 37



رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

اے ہمارے رب! بلاشبہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب! سو آپ مغفرت فرمادیجیے ہمارے گناہوں کی، اور کفارہ کر دیجیے ہمارے گناہوں کا اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دیجیے

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١٩٤﴾

اے ہمارے رب! اور ہمیں عطا فرمائیے جو آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بلاشبہ آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے

آل عمران 193- 194





وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَعَّلَ اللَّهُ بِهٖ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط

اور تمنانہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے
اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔

Do not covet something in which Allah has made
some of you superior to others.

النساء: 32

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے۔
پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔

Our Lord, surely we have believed, so forgive us our sins
and save us from the punishment of the Fire.





قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ بیشک میری نماز اور میری سب عبادتیں
اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے،
جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔

Say, :My prayer, my offering, my life and my death
are for Allah, the Lord of all the worlds.

الانعام: 162

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٤٠﴾

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔

whereas for the one who feared to stand before his Lord,
and restrained his self from the (evil) desire,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَاوِي ۗ ﴿٤١﴾

تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگی۔

the Paradise will be the abode.

انازعات : 40.41



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


وَكَايِن مِّن دَابَّةٍ ^{تَلِي} لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرِزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے
اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے
اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے

How many an animal there is that does not carry its provision. Allah gives provision to it as well as to you, and He is the All-Hearing, the All-knowing.

العنكبوت 60



إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

بیشک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں
اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔

Surely, Allah is with those who fear Him
and those who are good in their deeds.

النحل: 128





وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨ ط

اور آپ ﷺ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے
اور سب کو چھوڑ کر اسی کے ہو جائیے۔

And remember the name of your Lord, and devote yourself to Him with exclusive devotion.

(المزمل:8)